

TEN ITEM PERSONALITY INVENTORY

	Original Scale (English)	Final Forward	Backward 1	Backward 2
	Ten Item Personality Inventory (TIPI)	دس شخصی خصائص کی لسٹ	List of ten characteristic features of personality	List of ten personality qualities
	<p>Here are number of personality traits that may or may not apply to you. Please write a number next to each statement to indicate the extent to which you agree or disagree with that statement. You should rate the extent to which the pair of traits applies to you, even if one characteristic applies more strongly than the other.</p> <p>Disagree strongly (1) Disagree Moderately (2) Disagree a little (3) Neither agree nor disagree (4) Agree a little (5) Agree Moderately (6) Agree Strongly (7)</p>	<p>ہر شخصی خصوصیت ایک جوڑے کی صورت میں دی گئی ہے۔ جس کی مدد سے آپ نے اپنے اندر موجود خصوصیات کی درجہ بندی کرنی ہے چاہے جوڑے میں دی گئی ایک خصوصیت دوسری سے زیادہ آپ کے اندر موجود ہو۔</p> <p>مندرجہ ذیل پیمانے کی مدد سے آپ اپنے متفق یا غیر متفق ہونے کے درجے کی نشاندہی کریں۔</p> <p>شدید غیر متفق (1) کافی حد تک غیر متفق (2) کچھ حد تک غیر متفق (3) نہ متفق نہ ہی غیر متفق (4) کچھ حد تک متفق (5) کافی حد تک متفق (6) شدید متفق (7)</p>	<p>Every personality trait is given in a pair form. With the help of it categorize your own characteristics. Whether one trait is more appropriate than the other one. With the help of below mentioned scale please indicate your agreement or disagreement.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strongly disagree 2. To some extent disagree 3. Slightly disagree 4. Neutral 5. Slightly agree 6. To some extent agree 7. Strongly agree 	<p>Each personal quality is present in pair. You have to determine the quality present inside you, whether the one is more than the other. With the help of following scale indicate the extent of your agreement or disagreement.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Totally disagree 2. Disagree to some extent 3. Partially disagree 4. Neutral 5. Partially agree 6. Agree to some extent 7. Totally agree

All Rights Reserved © Gosling, Rentfrow & Swann, (2003)(7)

Translated by

Fareeha Arshad, & Farah Malik ,PhD (2016)

Institute of Applied Psychology

University of the Punjab, Lahore

Pakistan

	I see myself as:	میں خود کو دیکھتا/ دیکھتی ہوں بطور :	I see myself as:	I see myself as:
1.	Extraverted, enthusiastic.	بیرون بین ، پرجوش	Friendly, enthusiastic	Extrovert , excited
2.	Critical, quarrelsome.	تنقید کرنے والا/ والی ، جھگڑالو	A critic, quarrelsome	Critical, quarrelsome
3.	Dependable, self-disciplined.	انحصار کے قابل ، ذاتی طور پر منظم	Dependable, disciplined	Trustworthy, self disciplined
4.	Anxious, easily upset.	تشویش میں مبتلا ہو جانے والا/ والی، آسانی سے پریشان ہو جانے والا/ والی	Easily panic, easily disturbed	Anxious, easily disturbed
5.	Open to new experiences, complex.	نئے تجربات کے لئے تیار، پیچیدہ	Ready for experiment ,complicated	Ready for new experience/experiments, complicated
6.	Reserved, quiet.	لوگوں میں کم گھانے ملنے والا ، خاموش	Introvert, silent	Reserved , silent
7.	Sympathetic, warm.	ہمدرد، گرم جوش	Sympathetic, warm person	Sympathetic, warm hearted
8.	Disorganized, careless.	غیر منظم ، لا پرواہ	Undisciplined, careless	Undisciplined, careless
9.	Calm, emotionally stable.	پر سکون، جذباتی طور پر مستحکم	Calm, emotionally strong	Calm, emotionally stable
10.	Conventional, uncreative.	روایتی، غیر تخلیقی	Traditional, unimaginative	Conventional/ traditional , uncreative

All Rights Reserved © Gosling, Rentfrow & Swann, (2003)

Translated by

Fareeha Arshad, & Farah Malik ,PhD (2016)

Institute of Applied Psychology

University of the Punjab, Lahore

Pakistan